

EFU LIFE



EMBRACE WELLNESS



EFU HEMAYAH TAKAFUL **WIN LITE** SAVINGS PLAN

EFU Life Cares About Your Wellness

Prioritizing both healthy living and wellness is crucial for living a healthy life, involving the harmony of physical, nutritional and mental health that significantly influences daily life. By encouraging healthy habits, life becomes more enjoyable, leading to enriching experiences.

Discover how you can lead a healthier life with our unique wellness program.

EFU Life WIN - Lite - Your Path to Wellness

Introducing our groundbreaking wellness program that puts the power of managing your health and well-being right in your hands!

EFU Life WIN - Lite is a data-driven program that assists you in your journey towards living a healthier lifestyle by tracking your physical activity, monitoring your nutritional intake, challenging you to push your limits and offering rewards for accomplishing every milestone. With EFU Life WIN - Lite, we aim to empower our participants to take charge of their health, while still enjoying the peace of mind that comes from being protected by Pakistan's leading life insurance company.

EFU Life WIN - Lite Hemayah Takaful brings you the power of wellness and protection in its most accessible form - your trusted partner on the path to a healthier, happier you.

EFU Life WIN - Lite brings you Hemayah Takaful Savings Plan. It's not just a takaful product; It's an exhilarating adventure towards a better you!

What is Takaful?

Takaful is a Shariah compliant way of safeguarding yourself and your family in unforeseen circumstances. Individuals in the community come together for a common purpose and contribute into Waqf Fund operated by a Takaful Operator to protect themselves against future financial losses. A Family Takaful Plan assists participants to share their risk on the basis of cooperation, brotherhood, mutuality and solidarity for a common good.





dacadoo

OUR HEALTH TECH PARTNER

Dacadoo is a Swiss technology company that specializes in supporting the digital transformation of its participants, including EFU Life through digital person-years of scientific data. Dacadoo has partnered with various life and health insurance carriers across the world and is driving the digital revolution in the health and wellness industry.



EFU Life WIN - Lite Hemayah Takaful Savings Plan

EFU Life WIN – Lite Hemayah Takaful Plan is the affordable variant of our flagship wellness offering; designed to protect your loved ones in unforeseen circumstances while rewarding you for maintaining a healthy lifestyle. With WIN – Lite, wellness and protection come together in an accessible, lifelong partnership.

This product is a unit-linked Shariah-compliant investment plan, different from traditional Family Takaful. It allows you to invest your contributions in a fund of your choice, emphasizing your financial growth. But it doesn't stop there. With our Wellness feature, you can maximize your rewards, including short-term, medium-term, and long-term membership-linked benefits that encourage healthy living.

This Plan Consists of Two Key Components

- Helps you in your Wellness Journey by tracking your lifestyle.
-

Wellness

- **EFU Life WIN - Lite App**
- **Exciting Rewards**
- **Customized Goals & Challenges**
- **Health Score**
- **Engagement tools**



Cover

- **Takaful Coverage**
- **Maturity Benefits**
- **Investment & Growth**
- **Optional Benefits**

A Winning Strategy

The Wellness Wheel makes digital health engagement easier than ever. It is a wellness tool that assesses and visualizes various aspects of an individual's well-being.

Encompassing seven different dedicated areas to track a user's holistic health and offer even more personalized goals. These categories include physical health, mental well-being, physical activity, sleep, mindfulness, self-control, and nutrition.



The Wellness Wheel is used as a self-assessment tool to help individuals identify areas of their life that may require more attention or improvement. By visualizing their well-being in this way, users can set goals and track their progress in different life dimensions, aiming for a more balanced and fulfilling life.

The Health Score

Health Score is a number between 0 and 1,000 that represents overall relative health. This science-based indicator is built on over 300 million person-years of scientific data. It increases or decreases in real-time, depending on how a user's physical health, emotional wellbeing and lifestyle change over time. The Health Score is divided into 3 categories.



After calculating the Health Score, the following ranges are provided, each corresponding to specific categories, which indicate your initial health status

HEALTH SCORE RANGE	HEALTH SCORE CATEGORY	ACTION REQUIRED
0 - 479	Low	Needs a lot of improvement
480 - 549	Fair	
550 - 609	Good	On the right path for enhancing overall wellness
610 - 679	Very Good	
680 - 1000	Excellent Health Score	Keep up the good work!

Comprehensive Reward Program

EFU Life WIN - Lite - Hemayah Takaful offers three levels of rewards designed to motivate individuals to commit to a healthier lifestyle. These incentives promote well-being throughout the year, covering 365 days and involving various levels of rewards, starting from the first day of your WIN Membership.

You can earn points through regular tasks or physical activities like daily walks, gym workouts, cycling, etc. Additionally, points can be earned by simply engaging with EFU Life WIN - Lite App, which tracks and records your daily routines, including sleep, nutrition, and essential body information. Our app also remembers significant dates in your life and pleasantly surprises you with reward points which contribute to the improvement of your annual **WIN Status**.

Lifestyle & Loyalty Benefits – Wellness in Everyday Life

Enjoy access to special offers and partner discounts through EFU Life WIN – Lite, with exclusive offers in:

- Gyms and wellness brands
- Healthy dining, retail and entertainment
- Healthcare & diagnostics
- Fitness & wellness facilities



Access to Healthcare, Anytime, Anywhere with mHealth

EFU Life WIN also includes complementary mHealth, a comprehensive telehealth platform designed exclusively for its customers. This digital health solution provides convenient access to medical care and wellness tools anytime you need them.

Key Features of mHealth:

Enjoy complimentary access to EFU Life mHealth services with your EFU Life WIN- Lite. No extra cost, just smarter care.

- 24/7 doctor consultations for on-demand medical advice
- Appointment booking with General Physicians, Psychologists, and Nutritionists
- Diagnostic test discounts at Essa and Chughtai Labs
- Integrated Online pharmacy – enjoy discounts and order essential medicines direct within the app
- E-prescriptions, medication reminders, and vitals tracking
- Wellness Hub – A rich library of curated health and wellness content



REWARD LEVELS	TARGET	REWARDS
SHORT TERM REWARD	Complete 100,000 steps Challenge. or Engage in 10 hours of any Physical activity with an "elevated" heart rate, whichever comes first. (These targets are dynamic and can change based on the user's activity and Takaful contribution level)	A voucher worth Rs. 500 on completing steps or heart rate goals. Participants can earn a maximum Upto 2 vouchers.
MEDIUM TERM REWARD	Participants can earn up to 100,000 points annually. These points are earned through physical activity and engagement with the app.	The participant can earn up to 100,000 points and purchase exciting rewards from our online reward store.
LONG TERM REWARD	Max up to 35% membership linked bonuses can be earned depending on the membership term & WIN status.	Based on membership term and annual WIN status achieved at membership anniversary.

Policy Term (Years)	Percentage of Long-Term Policy Linked Bonus based on WIN Status			
	Beginner	Mover	Achiever	Winner
Up to 5 Years	0%	5%	10%	15%
6 to 10 Years	0%	7.5%	15%	20%
11 to 15 Years	0%	10%	20%	30%
16 to 20 Years	0%	12.5%	25%	35%

WIN Status:

The participant can progress through the four levels of EFU Life WIN - Lite Program and enjoy a variety of rewards based on how high their WIN status is. The more points you accumulate, the higher your WIN status, the greater the rewards.

Beginner



< 50,000 Points

Mover



50,000 Points

Achiever



70,000 Points


Winner




85,000 Points

Your WIN status will be locked after a year. To keep you engaged and motivated year after year, your WIN status begins at the Beginner level, and your points reset to zero at the start of every membership year.

EFU LIFE WIN POINTS YOU CAN EARN IN A YEAR




PARTICIPANT WELLNESS JOURNEY



Supported Devices

Physical activities can be tracked through wearable devices. You can sync any of your wearable devices, such as Samsung Gear, Apple Watch, Fitbit, Garmin, Xiaomi, Infinix, Zero, etc., smartwatches, to the app.



About EFU Life WIN - Hemayah Takaful Savings Plan

Important Details

	Eligible Age	18 to 65 years
	Minimum & Maximum Plan Term	10 to 40 years
	Maximum age at Maturity	75 Years
	Minimum Contribution	PKR. 50,000 per annum
	Fund Acceleration Contribution	Minimum: PKR. 50,000
	Payment Mode	Annual
	Cover Multiples	5-50 (depending on the age of the participant at entry)
	Short Term Rewards	Up to PKR. 12,000 annually
	Medium Term Rewards	Up to PKR. 10,000 annually
	Long Term Rewards	Up to 35% annual bonus based on membership term & annual status

Disclosure of Product

This is a Family Takaful product which has two distinct elements i.e., Takaful cover and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period:

If you cancel your membership within a free look period of 14 days from the date of the documents receipt, you are entitled for a full refund of Contribution less any expenses incurred by EFU Hemayah Takaful in connection with our medical or clinical examinations.

Death Benefits:

The unfortunate demise of the participant (covered person) allows the nominated beneficiaries to receive the death benefit as given:

-  **Till age 55**
Sum at Risk from Participant's Takaful Fund + Cash value of basic plan from participant's investment account +Cash value of units applicable against Fund Acceleration Contribution (FAC) payments (if any)
-  **Age 56 and above**
Sum Covered OR Cash value of the participant's investment account from the regular basic plan contribution (whichever is higher) Plus Cash value of the units applicable against Fund Acceleration Contribution (FAC) payments (if any)

Maturity Benefits:

At the end of the Membership Term, the maturity benefit payable will be:

-  The Cash Value of Participant's Investment Account from basic plan contributions.
Plus
-  The Cash Value from Contribution FAC payments.

Optional Benefits

Takaful Accidental Death Benefit

If death occurs due to accident; this benefit provides an additional lumpsum benefit

Takaful Accidental Death and Disability Benefit

This benefit provides an additional lump sum benefit in case of accidental death or disability.

Additional Term Takaful:

This benefit increases the level of life cover by providing an additional amount in the range of 50% to 200% of the Main Plan Sum covered, in case of death of the Life covered.

Takaful Accidental Death and Disability Benefit Plus:*

This benefit provides an additional lump sum benefit in case of an accidental death or disability (permanent & total) that makes you permanently disabled.

Takaful Waiver of Contribution

In case the participant is unable to follow any occupation due to the sickness or accident, the Contribution would be paid by EFU Hemayah Takaful.

Takaful Family Income Benefit:

The Takaful Family Income Benefit provides a monthly benefit payable starting from the death of the Participant till the expiry of the rider.

Takaful Lifecare Enhanced Benefit:

This benefit provides a flexible benefit ranging from Rs. 50,000 to a sum equivalent to the main plan sum covered subject to a maximum of Rs. 1.5 million, upon the diagnosis or the occurrence of any 20 covered critical illnesses.

***Any one accidental benefit can be selected.**

Fund Acceleration Contribution:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term, it can be invested in the plan to enhance your cash value. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration contribution payments. You can make these payments at any time while the membership is in force. The minimum FAC payment is Rs. 50,000.

Partial Withdrawal:

Without surrendering your membership, you can withdraw any amount from your cash value to meet a sudden need. Partial Withdrawal is allowed subject to a residual value of Rs. 20,000.

Complete Withdrawal:

WTO will charge an additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value in case of surrender before payment of two full-year contributions. At the time of withdrawal, you will be paid the full cash value of your fund. However, withdrawal in early membership years may result in lower cash value.

Indexation:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year regardless of your health. Once you select this option, the contribution will increase every year by 5% of the prior year's contribution.

Units Allocation

The proportion of basic plan allocated to investment is as shown in table:

Membership Year	Unit Allocation	Allocation charges*
1	40%	60%
2	70%	30%
3	80%	20%
4 and onwards	100%	0%*

***An allocation charge will be deducted from the Paid contribution every year as per the above table and the remainder will be allocated to the Participant's account value.**

Sum Covered:

This is the amount payable on the unfortunate event of death of the participant. This is equal to the Regular Basic Plan contribution times the cover multiple selected by the participant.


The Cover Multiple is subject to limits dependent on the age at commencement. Refer to the table below for further details:

Age	Cover Multiple
18 – 35	5 to 50
36 – 40	5 to 40
41 – 49	5 to 30
50 – 60	5 to 10
61 – 65	5

Opportunity for Growth:

Every contribution paid towards the plan will be invested in one of the internal investment funds of EFU Hemayah Takaful. It is completely your decision to choose the internal fund based on your investment objectives. You can select from the following unit funds mentioned below:

All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria.



Funds		
EFU Takaful Growth Fund	EFU Takaful Conservative Fund*	EFU Takaful Aggressive Fund
Fund Categorization: Balanced	Fund Categorization: Income Fund	Fund Categorization: Aggressive
Risk Profile: Medium	Risk Profile: Low	Risk Profile: High
A unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant Investments. The objective of the fund is to maximize capital growth by investing in a portfolio spread across a wide range of investments such as Islamic mutual funds, approved equities, term deposits in Islamic Banks, and Sukuk Bonds.	EFU Takaful Conservative Fund has a conservative investment allocation strategy and low risk. This is a unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant government securities, non-equity Shariah-Compliant mutual funds, Shariah-Compliant short-term deposits, and cash in Islamic banks or Islamic windows of conventional banks. The fund aims to provide stable investment returns with minimal risk and is suitable in times of the volatile stock market.	A unit-linked Participants' investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant investments, aimed at maximizing capital growth by using investments with an aggressive investment strategy.

***EFU Takaful Conservative Fund will be selected by default.**

Multiple Fund Options:

Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Total Contribution under your membership will be allowed to be distributed in funds in multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.

Charges:

Following charges apply on the Basic Takaful Plan based on the principle of Wakalat-ul-Istismar:

Wakalat-ul-Istismar:

Charges	Rate / PKR
Administration charge	50,000 to 99,999: PKR 1,500/- per annum:
	100,000 to 249,999: PKR 1,750/- per annum:
Bid/Offer Spread	5% of the net regular contribution
Investment Management Charge	1.5% per annum
Additional Wakalat-ul-Istismar Fee	An additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value will be charged in case of surrender before payment of two full-year contributions.
Takaful Donation (Waqf Donation)	An age-based takaful donation applies for the takaful cover each year and is dependent on the sum at risk. No takaful donation applies in years where the cash value exceeds sum covered.

Wellness Charge:

Contribution	Charges
50,000 to 99,999	PKR 3,500 per annum
100,000 to 249,999	PKR 5,250 per annum

Automatic Non-Forfeiture Option:

If Contribution payments are stopped due to any reason after paying two full years' contributions, the Company will keep the basic membership in force for a period of one year from the date of the first unpaid contribution. During this one-year period, the Company will cancel enough units to pay for the cost of maintaining the cover and for administration. At the end of this period, if the membership still has a cash value, it will be converted to a "Paid-up" membership. In such a case, no further Contributions would be payable and the amount payable on death or maturity will be equal to the Cash Value of the membership. At each membership anniversary, the Company will cancel enough units to pay for the administration charge of maintaining the membership.

A Complete and Exciting Proposition

EFU Life WIN - Lite Hemayah Takaful presents a holistic solution that seamlessly blends the dependability of traditional insurance with the excitement of embracing well-being. With us, you're not only securing your future but also commencing an exciting journey towards a more robust and lively life. It's a domain where your health and personal advancement sync with an enticing offering.

Disclaimer

- The cash values can be further enhanced by payment of Fund Acceleration Contributions.
- A description of how the contract works is given in the membership Provisions and Conditions.
- Please contact our Head Office or Sales Consultant for a personalized illustration of the benefits.
- This brochure gives a general outline of the 'Wellness Plan'. The contract will be governed by the detailed conditions set out in the membership.
- All investments made in the selected Fund are subject to market risks. The investment risk of the selected fund will be borne by the participant.



MUFTI MUHAMMAD IBRAHIM ESSA

Graduate from Jamiah Darul Uloom Karachi, Pakistan
Shariah Advisor – Islamic Finance and Takaful/Retakaful

المفتى ابراهيم عيسى

خريج الجامعة دار العلوم كراتشي
المشير الشرعى للامور المالية الاسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE


UNDER RULE 26(1)(e) OF TAKAFUL RULES, 2012

FOR EFU LIFE ASSURANCE LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS

In the capacity of Shariah Advisor- EFU Life Assurance Limited – Window Takaful Operations, I certify that I have reviewed the Hemayah Takaful WIN Savings Plan marketed through Salesforce and Dedicated Salesforce. It is based on the Wakalah-Waqf takaful model. I have also examined all relevant processes and documents including the Participants Membership Document.

Based on Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the underlying product is compliant as per Shariah. In my opinion, it is permissible to obtain the said Takaful Product.
And Allah (SWT) knows the best.

Dated: 14 May, 2024



Muhammad Ibrahim Essa

Shariah Advisor


EFU Life Assurance Limited Window Takaful Operations



EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Fax: (021) 3453-7519 Email:csd@efuhemayahtakaful.com

Registered Office: Al-Malik Centre 70 W, F-7/G-7 Jinnah Avenue,
(Blue Area) Islamabad, Phone: 051 - 2820989



(021) 111-338-111



efuhemayahtakaful.com



/WIN.EFULife



EFUWIN



EFUWIN
9898

EFU LIFE



EMBRACE WELLNESS



ای ایف یو ہما یہ تکافل
ون لائٹ سیونگنز پلان

EFU لائف آپ کی صحت و تندرستی کا محافظ

صحت مند زندگی گزارنا اور اپنی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا دونوں انتہائی اہم ہیں جس میں جسمانی، غذائی اور ذہنی صحت کا توازن شامل ہے، جو آپ کی روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم صحت مند عادات اپناتے ہیں تو زندگی زیادہ خوشگوار اور تجربہ بات زیادہ خوبصورت بن جاتے ہیں۔

ہمارے خصوصی وینلیس پروگرام کے ذریعے جانیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی کو مزید صحت مند بنا سکتے ہیں۔

ای ایف یو لائف ہمارے تکافل WIN-Lite آپ کی فلاح و بہبود کا راستہ

ہم آپ کے لئے ایک نیا اور بہترین وینلیس پروگرام متعارف کر رہے ہیں جو آپ کی صحت اور فلاح و بہبود کا خیال رکھنے کا اختیار آپ کو دیتا ہے! EFU لائف WIN ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کے صحت مند طرز زندگی کے سفر میں آپ کی معاونت کرتا ہے اور آپ کی جسمانی سرگرمیوں کو مانٹر کرتا ہے، آپ کی غذائی عادات کو جانچتا ہے، اور آپ کو اپنی حد سے تجاوز کرنے کا چیلنج دیتا ہے، جس میں ہر کامیابی پر آپ کو ریوارڈز بھی ملتے ہیں۔ EFU لائف WIN کے ذریعے ہمارا مقصد اپنے صارفین کو با اختیار بنانا ہے تاکہ وہ اپنی صحت کو خود بہتر بنانے کا موقع دیں، اس کے ساتھ ہی آپ کو پاکستان کی معروف انشورنس کمپنی کے تحفظ کا اطمینان بھی حاصل رہتا ہے۔

ای ایف یو لائف ہمارے تکافل WIN-Lite آپ کے لیے صحت مند زندگی اور تحفظ کو ایک آسان انداز میں لے کر آتا ہے۔ آپ کا قابل اعتماد ساتھی، بہتر اور خوشحال زندگی کی جانب سفر میں۔

یہ صرف انشورنس نہیں ہے؛ یہ ایک بہتر اور صحت مند زندگی کی جانب ایک دلچسپ سفر ہے!

تکافل کیا ہے؟

تکافل ماہرین شریعت کی زیر نگرانی تیار کردہ باہمی تعاون کے اصولوں پر مبنی تحفظ اور سرمایہ کاری کا طریقہ کار ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو اور آپ کے پیاروں کو مستقبل میں آنے والی مالی پریشانیوں ہر مسئلے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تکافل پروڈکٹس کے ذریعے باہمی تعاون اور بھائی چارے کی بنیادوں پر تکافل پلان کے شرکاء کو غیر متوقع جانی اور مالی نقصانات کی صورت میں مالی تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔





dacadoo

ہمارا ہیلتھ ٹیک پارٹنر

Dacadoo ایک سانس ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو اپنے صارفین، بشمول EFU لائف کی ڈیجیٹل تبدیلی کی معاونت میں مہارت رکھتی ہے، جو سائنسی ڈیٹا کے ڈیجیٹل شخصی سالوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ Dacadoo نے دنیا بھر میں متعدد لائف اور ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کی ہے اور صحت اور بہبود کے شعبے میں ڈیجیٹل انقلاب لا رہا ہے۔



ای ایف یو لائف ہمایہ تکافل Lite - WIN سیونگنر پلان سے متعلق

ای ایف یو لائف ہمایہ تکافل Lite - WIN سیونگنر پلان ہماری معروف ویلنٹس پروڈکٹ کا ایک کفایتی ورژن ہے، جو غیر متوقع حالات میں آپ کے پیاروں کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ صحت مندر پر زندگی اپنانے پر آپ کو انعام دیتا ہے۔

ای ایف یو لائف ہمایہ تکافل Lite - WIN کے ساتھ صحت اور تحفظ ایک آسان، طویل مدتی شرکت میں یکجا ہو جاتے ہیں۔

یہ پروڈکٹ یونٹ سے منسلک سرمایہ کاری منصوبہ ہے، جو رجحانی لائف تکافل سے مختلف ہے۔ یہ آپ کو آپ کی مرضی کے فنڈ میں اپنے کونٹر بیوشن کی سرمایہ کاری کرنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ آپ کی مالی ترقی میں اضافہ ہو۔ لیکن صرف یہی نہیں، ہمارے ویلنٹس منچر کے ساتھ، آپ اپنے ریوارڈز کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، بشمول قلیل مدتی، وسط مدتی، اور طویل مدتی پالیسی سے منسلک فوائد جو صحت مند زندگی کو فروغ دیتے ہیں۔

یہ پلان 2 اہم حصوں پر مشتمل ہے

آپ کی طرز زندگی سے واقفیت حاصل کر کے صحت مند رویے کی حوصلہ افزائی کے ذریعے آپ کے صحت مند سفر میں معاونت کرتا ہے۔

تکافل کے ذریعے آپ کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے۔

پروٹیکشن

- تکافل کو ریج
- میچور بی کے فوائد
- سرمایہ کاری اور گروٹھ
- اختیاری رائڈرز



ویلنٹس

- EFU لائف WIN ایپ
- زبردست ریوارڈز
- کسٹمائزڈ اہداف اور چیلنجز
- ہیلتھ اسکور
- انکجمنٹ ٹولز

ایک فاتح حکمت عملی

ویلنٹس ویل ڈیجیٹل صحت کی شمولیت کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ یہ ایک جدید صحت کا ٹول ہے جو ایک فرد کی فلاح و بہبود کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں بصری انداز میں پیش کرتا ہے۔



یہ سات مخصوص عناصر کا احاطہ کرتا ہے جو صارف کی جامع صحت کی نگرانی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور مزید ذاتی نوعیت کے اہداف فراہم کرتے ہیں۔ ان کیلکولیٹرز میں جسمانی صحت، ذہنی صحت، جسمانی سرگرمی، نیند، ذہن سازی، خود پر قابو، اور غذا انیت شامل ہیں۔

ویٹنس ویل ایک خود تشخیصی ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو افراد کو اُن کی زندگی کے اُن پہلوؤں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے جن پر مزید توجہ یا بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اپنی فلاح و بہبود کو خود ڈیجیٹل انداز میں دیکھ کر، صارفین اپنے اہداف طے کر سکتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں، جس کا مقصد ایک زیادہ متوازن اور اطمینان بخش زندگی کا حصول ہے۔

ہیلتھ اسکور

ہیلتھ اسکور 0 سے 1,000 کے درمیان ایک عدد ہے جو مجموعی طور پر صحت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سائنسی بنیادوں پر تیار کیا گیا پیمانہ ہے جو 300 ملین سے زائد انسانی سالوں پر مبنی سائنسی ڈیٹا سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ریٹل ٹائم میں بڑھتا یا کم ہوتا ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ صارف کی جسمانی صحت، جذباتی خوشحالی، اور طرز زندگی میں وقت کے ساتھ کیسا فرق آتا ہے۔ ہیلتھ اسکور کو 3 کیلکریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔



ہیلتھ اسکور کا حساب لگانے کے بعد درج ذیل رینج پیش کی جاتی ہیں، جو مخصوص کیلکریز کے مطابق ہوتی ہیں اور آپ کی ابتدائی صحت کی صورت حال کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ضروری درکار عمل	ہیلتھ اسکور کیلکری	ہیلتھ اسکور رینج
بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے	کم درجے پر بہتر	0 - 479
مجموعی صحت و تندرستی کے لئے درست راہ پر	اچھا بہت اچھا	480 - 549
اچھی طرز زندگی کو جاری رکھیں!	بہترین ہیلتھ اسکور	550 - 609
		610 - 679
		680 - 1000

جامع ریورڈ پروگرام

ای ایف یو لائف ہمایٹکائل WIN - Lite ریورڈز کے 3 درجے پیش کرتا ہے جو افراد کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یہ محرکات سال بھر، یعنی 365 دنوں تک، فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں اور ریورڈز کے متعدد درجات کا احاطہ کرتے ہیں، جن کا آغاز آپ کی WIN ممبر شپ کے پہلے دن سے سے ہو جاتا ہے۔

آپ روزمرہ کے کاموں یا جسمانی سرگرمیوں جیسے روزانہ کی چہل قدمی، جم کی ورزش، سائیکلنگ وغیرہ کے ذریعے پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ EFU Life WIN ایپ کے ساتھ صرف مصروف عمل ہونے کے ذریعے بھی پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے معمولات، بشمول نیند، غذا، اور جسم کی اہم معلومات کو ٹریک اور ریکارڈ کرتی ہے۔ ہماری ایپ آپ کی زندگی کی اہم تاریخوں کو بھی یاد رکھتی ہے اور آپ کو ریورڈز پوائنٹس دے کر خوشگوار طور پر سرپرائز دیتی ہے، جو آپ کی سالانہ WIN Status کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔

طرز زندگی اور اعتماد کے فوائد۔ روزمرہ زندگی میں خوشگوار صحت۔

ای ایف یو لائف ہمارے ٹکفل Lite -WIN کے ذریعے خاص آفرز اور پارٹنرز کا وٹنس تک رسائی حاصل کریں، جن میں شامل ہیں:

- جمر اور وٹلنٹس برانڈز
- صحت مند کھانے، ریٹیل اور تفریحی مواقع
- ہیلتھ کیئر اور ڈائجیٹو سٹک سہولیات
- فٹنس اور وٹلنٹس فیلٹیٹیز



ایم ہیلتھ کی سہولت کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال، ہر وقت، ہر جگہ

ای ایف یو لائف WIN میں ایم ہیلتھ کی سہولت بھی شامل ہے، جو ایک مکمل ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم ہے اور خاص طور پر ہمارے صارفین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ہیلتھ سروس آپ کو کسی بھی وقت طبی مشورے اور وٹلنٹس ٹولز تک آسان رسائی فراہم کرتی ہے۔

mHealth کی نمایاں خصوصیات:

ای ایف یو لائف ہمارے ٹکفل Lite -WIN کے ساتھ مفت ایم ہیلتھ سروس کا فائدہ اٹھائیں۔ کوئی اضافی خرچ نہیں، بس بہتر دیکھ بھال۔

- دن رات، کسی بھی وقت ڈاکٹر سے مشورہ
- جنرل فزیشنز، سائیکا لوجسٹ اور نیوریشنلسٹ سے آپ کی ٹکفل کی بکنگ
- عیسائی اور چھٹائی لیجز پر ڈائجیٹو سٹک ٹیسٹ پر ڈسکاؤنٹ
- آن لائن فارمی سے براہ راست ایپ میں دوا کی خریداری اور رعایت
- ای۔ پریسکر پشز، دوائیوں کی یاد دہانی، اور وائٹلنٹس بکنگ
- وٹلنٹس جب۔ صحت و تندرستی پر مبنی منتخب معلوماتی مواد کی لائبریری




ریوارڈز کے لیوز	ٹارگٹ	ریوارڈز
تقلیل مدتی ریوارڈز	50,000 پوائنٹس کی تکمیل کا چیلنج یا 5 گھنٹے کی بھی جسمانی سرگرمی میں مصروف عمل رہیں جس میں آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو، جو بھی سیکھیں گے۔ (یاد دہانہ صارف کی سرگرمی کی نوعیت کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتے ہیں)	پوائنٹس کی تکمیل یا دل کی دھڑکن تیزی کے ہدف کے حصول پر 500 روپے کا ڈاؤنچر ایک ماہ میں زیادہ سے زیادہ 4 ڈاؤنچرز
درمیانی مدت کے ریوارڈز	صارفین سالانہ 100,000 تک پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹس بذریعہ جسمانی سرگرمی اور ایپ کے ساتھ مصروف عمل رہنے سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔	صارف 100,000 پوائنٹس تک حاصل کر سکتا ہے اور ہمارے آن لائن ریوارڈز اسٹور سے زبردست ریوارڈز خرچ کر سکتا ہے۔
طویل مدتی ریوارڈز	زیادہ سے زیادہ 35 فیصد پالیسی سے منسلک بونس حاصل کیے جاسکتے ہیں جس کا انحصار پالیسی کی مدت اور WIN Status پر ہے۔	پالیسی کی مدت اور سالانہ WIN Status کی بنیاد پر جو پالیسی انڈیورسری پر حاصل ہو۔

پالیسی کی مدت (سالوں میں)	کینئر	مموور	ایچیور	ویز
5 سال یا کم	0%	5%	10%	15%
6-10 سال	0%	7.5%	15%	20%
11-15 سال	0%	10%	20%	30%
16-20 سال	0%	12.5%	25%	35%

WIN Status

صارف EFU Life WIN Status پروگرام میں آگے بڑھ کر سکتا ہے اور اپنے WIN Status کی بنیاد پر مختلف ریوارڈز حاصل کر سکتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ پوائنٹس جمع کریں گے، آپ کا WIN Status اتنا ہی بلند ہوگا، اور ریوارڈز بھی اتنا زیادہ ہوگا۔





آپ کا WIN Status ایک سال بعد لاکر دیا جائے گا۔ ایک سال بعد آپ کو مصروف عمل اور آمادہ رکھنے پر آپ کے WIN Status کی ابتدائی سطح سے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر پالیسی سال کے آغاز پر آپ کے پوائنٹس 0 پر ریٹ ہو جاتے ہیں۔

EFU LIFE WIN پوائنٹس

جو آپ ایک سال میں حاصل کر سکتے ہیں



صارف کی صحت و تندرستی کا سفر



متعلقہ ڈیوائسز

جسمانی سرگرمیوں کا جائزہ پہننے والی ڈیوائسز کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ آپ پہننے والی کوئی بھی 4 ڈیوائسز کو ایپ کے ساتھ sync کر سکتے ہیں، جیسا کہ Garmin, Fitbit, Apple Watch, Samsung Gear Zero, Infinix, Xiaomi یا اسمارٹ واچز۔

تمام متعلقہ ڈیوائسز کی فہرست پالیسی دستاویزات میں موجود ہے۔



یونٹ سے منسلک ہماری تکفیل سیونگز پلان سے متعلق اہم تفصیلات

عمر کی اہلیت	18 سے 65 سال
کم از کم اور زیادہ سے زیادہ پلان کی مدت	10 سے 40 سال
میچورٹی کے وقت زیادہ سے زیادہ عمر	75 سال
کم از کم کونٹریبوشن	سالانہ 50,000 روپے
فنڈ ایکسلیمریشن پلان	کم از کم: 50,000 روپے
ادائیگی کا طریقہ کار	سالانہ بنیاد پر
پروٹیکشن ملٹیز	5 سے 50 (پالیسی کی شروعات کے وقت پالیسی ہولڈر کی عمر پر منحصر)
تخلیل مدت	سالانہ 12,000 تک
درمیانی مدت	سالانہ 10,000 تک
طویل مدتی	پالیسی کی مدت اور سالانہ اسٹیٹس کی بنیاد پر 35 فیصد تک سالانہ بونس



پروڈکٹ کا انکشاف:

یہ ایک لائف تکفیل پروڈکٹ ہے جس میں دو مختلف عناصر شامل ہیں: تکفیل کوریج اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا حصہ یونٹ سے منسلک فنڈز کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ہے۔

فوری لک پیئرڈ:

اگر آپ دستاویزات کی وصولی کی تاریخ سے 14 دن کے فوری لک پیئرڈ کے اندر اپنی پالیسی منسوخ کرتے ہیں، تو EFULife HEMAYAH TAKAFUL کی جانب سے طبی یا کلینیکل معائنوں سے متعلق اخراجات تفریق کرنے کے بعد آپ کو کونٹریبوشن کی مکمل رقم واپسی کے حقدار ہوں گے۔

وفات کی صورت میں فوائد:

پالیسی ہولڈر (انشورڈ فرد) کی خدانخواستہ وفات ہونے کی صورت میں نامزد افراد کو درج ذیل بینیفٹس حاصل ہوں گے:

عمر 55 سال تک:

بنیادی پلان کی تکفیل رقم + ریگولر بینک پلان کو کونٹریبوشن پر لاگو پونٹس کی کیش ویلیو + فنڈ ایکسلیمریشن کو کونٹریبوشن (FAC) کی ادائیگیوں کے مطابق پونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

عمر 56 سال اور اس سے زائد:

بنیادی پلان کی تکفیل رقم یا ریگولر بینک پلان کو کونٹریبوشن کے مطابق پونٹس کی کیش ویلیو (جو بھی زائد ہو) + فنڈ ایکسلیمریشن کو کونٹریبوشن (FA) کی ادائیگیوں کے مطابق پونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

میچورٹی فوائد:

پالیسی کی مدت ختم ہونے پر، قابل ادائیگی میچورٹی فوائد درج ذیل ہوں گے:

بینک پلان کو کونٹریبوشن کی مدد میں مختص کردہ پونٹس کی مجموعی کیش ویلیو۔

مزید برآں،

فنڈ ایکسلیمریشن کو کونٹریبوشن (FAC) کی مدد میں مختص کردہ پونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)۔

اختیاری فوائد

بہفائل حادثاتی موت اور معذوری کا فائدہ:* یہ رانڈر حادثاتی موت یا معذوری کی صورت میں اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔	بہفائل حادثاتی موت کا بینیفٹ:* اگر موت کسی حادثے کے باعث ہو، تو یہ فائدہ اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔
بہفائل حادثاتی موت اور معذوری کا فائدہ پلس:* یہ رانڈر حادثاتی موت یا معذوری (مکمل اور مستقل)، جو آپ کو مستقل معذور بنا دے، کی صورت میں اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔	بہفائل اضافی ٹرم انشورنس: یہ رانڈر زندگی کی کوریج کو بڑھاتا ہے اور انشورڈ فرد کی وفات کی صورت میں بنیادی پلان کی انشورنس رقم کی 50 فیصد سے 200 فیصد تک اضافی رقم فراہم کرتا ہے۔
بہفائل فیملی اکم بینیفٹ: یہ فائدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پالیسی ہولڈر (انشورڈ فرد) کی موت کی صورت میں پلان کی مدت کے دوران فیملی کو مابین آمدنی فراہم کی جائے۔	بہفائل پرییم کی چھوٹ: اگر انشورڈ فرد بیماری یا حادثے کی وجہ سے کسی بھی پیشہ کو جاری رکھنے سے قاصر ہو تو پرییم کی ادائیگی EFU Life کے ذریعے کی جائے گی۔

* کسی بھی ایک ایکسیڈنٹل بینیفٹ کو منتخب کیا جاسکتا ہے۔

فنڈ ایکسلریشن کوئٹریوشن:

اگر کسی بھی وقت پلان کی مدت کے دوران آپ کے پاس اضافی نقد رقم موجود ہے، تو اسے پلان میں سرمایہ کاری کر کے آپ کی کیش ویلیو کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ ان اضافی ادائیگیوں کو فنڈ ایکسلریشن کوئٹریوشن کہا جاتا ہے۔ آپ یہ ادائیگیاں پالیسی کو فعال رکھتے ہوئے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ فنڈ ایکسلریشن کوئٹریوشن کی کم از کم ادائیگی 50,000 روپے ہے۔

جزوی دستبرداری:

پالیسی سے دستبردار ہوئے بغیر، آپ کسی فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی کیش ویلیو سے کوئی بھی رقم نکال سکتے ہیں۔ جزوی دستبرداری کی اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ بقیہ رقم کم از کم 20,000 روپے ہو۔

مکمل دستبرداری:

آپ دوسرے سال کی پرییم کی ادائیگی کے بعد اپنے پلان کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ دستبرداری کے وقت، آپ کو اپنے فنڈ کی مکمل کیش ویلیو ادا کی جائے گی۔ تاہم، ابتدائی پالیسی سالوں میں دستبرداری سے آپ کو کم کیش ویلیو مل سکتی ہے۔

انڈیکیشن:

یہ آپشن آپ کو اس ذہنی سکون اور تحفظ کا احساس فراہم کرتا ہے کہ آپ کے پلان کے فوائد ہر سال افراط زر کے مطابق خود بخود اپ ڈیٹ ہو جائیں گے، خواہ آپ کی صحت کیسی بھی ہو۔ ایک بار جب آپ یہ آپشن منتخب کر لیں، تو ہر سال کوئٹریبیوٹن میں پچھلے سال کے کوئٹریبیوٹن کا 5 فیصد اضافہ ہو جائے گا۔

یونٹس کی تخصیص:

بنیادی پلان کا وہ تناسب جو سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے، درج ذیل جدول میں دکھایا گیا ہے:

ممبرشپ کا سال	یونٹ کی تخصیص	تخصیص کے چارٹز *
1	40%	60%
2	70%	30%
3	80%	20%
4 یا اس سے زائد	100%	0%

* ایلیکیشن چارج ہر سال ادا شدہ کوئٹریبیوٹن سے مندرجہ بالا جدول کے مطابق منہا کیا جائے گا، اور باقی رقم صارف کے اکاؤنٹ ویلیو میں شامل کی جائے گی۔

سہم کو ورڈ:

یہ وہ رقم ہے جو پالیسی ہولڈر/انشورڈ فرد کی وفات کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ رقم ریگور بنیادی پلان کوئٹریبیوٹن کو پالیسی ہولڈر کے منتخب کردہ پروٹیکشن ملٹیپل کے ساتھ ضرب دے کر حاصل کی جاتی ہے۔

پروٹیکشن ملٹیپل عمر کے آغاز پر مقررہ حدود کے مطابق ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے درج ذیل جدول ملاحظہ کریں:

پروٹیکشن ملٹیپل	عمر
5 to 50	18 - 35
5 to 40	36 - 40
5 to 30	41 - 49
5 to 10	50 - 60
5	61 - 65

ترقی کے مواقع:

پلان کے لیے ادا کیے گئے ہر کوئٹریبیوٹن کی سرمایہ کاری EFU Life کے ایک انٹرنل انویسٹمنٹ فنڈ میں کی جائے گی۔ یہ مکمل طور پر آپ کے فیصلے پر منحصر ہے کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کے اہداف کی بنیاد پر کون سا انٹرنل فنڈ منتخب کرتے ہیں۔ آپ درج ذیل یونٹ فنڈز میں سے منتخب کر سکتے ہیں:

تمام دستیاب فنڈز کو سرمایہ کاری کے معیار کے مطابق ان کی رسک پروفائلینگ کے ساتھ درجہ بندی کی گئی ہے۔

فئذ		
ای ایف یو تکافل گرو تھ فئذ	ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فئذ *	ای ایف یو تکافل ایگریٹو فئذ
فئذ کی قسم: متوازن	فئذ کی قسم: انکم فئذ	فئذ کی قسم: ایکریسو
رسک پروفائل: درمیانی	رسک پروفائل: کم	رسک پروفائل: زیادہ
یہ یونٹ سے منسلک ایک شرکا مکافل سرمایہ فئذ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاریوں پر مشتمل ہے۔ فئذ کا مقصد ایک پورٹ فولیو کے پھیلاؤ میں سرمایہ کاریوں کی ایک وسیع رینج میں جیسے کہ اسلامک میوچل فئذ، ہمنظور شدہ مالی انکیورس، اسلامی فنڈوں میں ٹرم ڈپازٹ اور صکوک بانڈز جیسی ایکسوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے حاصل شدہ سرمائے کو زیادہ فروغ دینا ہے۔	ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فئذ سرمایہ کاری کی تخصیص کی ایک محتاط حکمت عملی رکھتا ہے اور اس میں کم خطرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ شریعت کے مطابق حکومتی سکیورٹیز، شریعت کے مطابق غیر ایکٹیو میوچل فئذ، شریعت کے مطابق قبل المدت ڈپازٹس، اسلامی فنڈوں میں پامروہ پیکیجوں کی اسلامک ونڈز میں دی جانے والی خدمات میں نقد پر مشتمل یونٹ سے منسلک شرکا مکافل سرمایہ کاری فئذ (پی آئی ایف) ہے۔	یہ یونٹ سے منسلک شرکا مکافل سرمایہ کاری فئذ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاری پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد ماریٹ کی متوقع تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

* ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فئذ خود کا طور پر منتخب کیا جائے گا۔

متعدد فئذ کے اختیارات:

اس آپشن کے تحت آپ کو پلان کے دو یونٹ لنکڈ فئذز کا کس انتخاب کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ فئذز کم سے 10 فیصد کے ملٹیپلر میں منتخب کیا جاسکتا ہے، یعنی فئذ کی تقسیم کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ 50/50، 60/40، 70/30، 80/10، 90/10

چار جز:

وکالہ الاسٹیمار:

چارجز	ریٹ/پاکستان روپے میں
انتظامی اخراجات (ایڈمنسٹریشن چارج)	50,000 سے 99,999 سالانہ: 1,500 روپے 100,000 سے 249,999 سالانہ: 1,750 روپے
پیر/آخر (یوٹی/پیکس) سہری	مختص شدہ پیادہ اور اضافی فئذ کنزرویٹو کا 5 فیصد
سرمایہ کاری انتظامات اخراجات (انویسٹ منجمنٹ چارج)	فئذ قدر کا 1.5 فیصد سالانہ
فئذ تبدیل کرنے کی فیس	500 روپے
دستبردارائی عمل درآمد فیس	500 روپے
اضافی وکالہ الاسٹیمار فیس چارج	دو سال کے مکمل کنزرویٹو ادارے جانے سے پہلے بہتر اداری کی صورت میں سالانہ قدر کے 50 فیصد کے سامانی اضافی وکالہ الاسٹیمار فیس چارج کیا جائے گا۔

تکافل ڈونیشن (وقف ڈونیشن):

شریک تکافل کی عمر اور سم ایٹ رسک کے حساب سے ایکچوریل کی طرف سے مقرر کردہ رقم جو کہ شریک تکافل فئذ میں ہر سال جمع کی جائیگی۔ البتہ جب کیش ویلو سم کورڈ (ذخفظ) سے بڑھ جائے تو تکافل ڈونیشن کی مددیں کوئی رقم منہا نہیں کی جائے گی۔

• وقف فئذ سے وکالہ خرچ:

تکافل عطیہ کا 50 فیصد

ویلنئیس چارج:

کونٹریبیوشن	چارج
50,000 سے 99,999	سالانہ 3,500 روپے
100,000 سے 249,999	سالانہ 5,250 روپے

خود کار ضبط نہ ہونے کا اختیار:

اگر مکمل دوسالوں کے کونٹریبونشن ادائیگی کے بعد کسی وجہ سے کونٹریبونشن کی ادائیگی نہ ہو تو کمپنی پہلی غیر ادا شدہ کونٹریبونشن کی تاریخ سے ایک سال کے لیے بنیادی پالیسی کو فعال رکھے گی۔ اس ایک سال کی مدت کے دوران، کمپنی وہی پالیسی منسوخ کرے گی جو کوریج کے اخراجات اور انتظامی خرچ کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس مدت کے اختتام پر، اگر پالیسی کی ابھی تک کیش ویلیو موجود ہو تو اسے ”پیڈ-اپ“ پالیسی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں مزید کونٹریبونشن ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وفایت مائیجورٹی کی صورت میں قابل ادا رقم پالیسی کی کیش ویلیو کے برابر ہوگی۔ ہر پالیسی کی اینیورسری پر، کمپنی پالیسی کے انتظامی چارج کو پورا کرنے کے لیے مناسب مطلوبہ منسوخ کرے گی۔

ایک مکمل اور زبردست پیشکش

”EFU Life WIN“ ایک جامع حل پیش کرتا ہے جو روایتی، کاٹل کو صحت و تندرستی کے فروغ کے جذبے کے ساتھ ملاتا ہے۔ ہمارے ساتھ، آپ نہ صرف اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہے ہیں بلکہ ایک مستحکم اور متحرک زندگی کی جانب ایک دلچسپ سفر کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں آپ کی صحت اور ذاتی فلاح و بہبود ایک زبردست پیشکش کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔

ڈسکلیمر

- کیش ویلیوز میں مزید اضافہ فنڈ ایکسچینج کونٹریبونشن کی ادائیگی سے ممکن ہے۔
- معاهدے کی تفصیل ممبر شپ کی شرائط و ضوابط میں بیان کی گئی ہے۔
- براہ مہربانی فوائد کی ذاتی تفریح کے لیے ہمارے ہیڈ آفس یا سیکرٹریٹ سے رابطہ کریں۔
- یہ بروشر ”پلیس پلان“ کا عمومی خاکہ فراہم کرتا ہے۔ معاہدہ ممبر شپ میں درج تفصیلی شرائط کے مطابق ہوگا۔
- منتخب کردہ فنڈ میں کی جانے والی تمام سرمایہ کاری مارکیٹ رسک سے مشروط ہیں۔ منتخب کردہ فنڈ کا سرمایہ کاری کا رسک ممبر شپ ہولڈر کو برداشت کرنا ہوگا۔



ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th، اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efuhemayatkaful.com

رجسٹرڈ آفس: الملیک سینٹر W-70، ایف-7/جی-7 جناح ایونیو،

(بلو ایریا) اسلام آباد، فون: 051-2820989



(021) 111-338-111



efulife.com



/WIN.EFULife



EFUWIN



EFUWIN
9898